

Economics

Paper : II

Time : 30 Minutes

Marks : 20

Roll No.

HSSC (12th) 2nd Annual 2022

Objective

(امیدوار خود پر کرے)

معاشیات

II :

وقت : 30 منٹ

نمبر : 20

Paper Code 8 1 1 1

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ اپنی جوابی لکھنا ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر پائپن سے بھر دیجئے۔

Note: - You have four choices for each objective type question as A,B,C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

SECTION-A

Q.1	Questions / سوالات	A	B	C	D
1.	After the deduction of direct tax from personal income we can get:	Gross national product	Net national product	قومی آمدنی	قابل تصرف شخصی آمدنی
2.	To increase per capita income it is necessary to:	آبادی میں اضافہ	قومی آمدنی میں اضافہ	شرح سود میں اضافہ	آجرت میں اضافہ
3.	Which one of the given is not included in money?	Currency note	Demand deposits	مدتی ادائیگیاں	سونا چاندی
4.	In Pakistan, currency note of Rs. 100 is:	بدلتی پوزیٹل پاپر کرنسی نوٹ	Inconvertible paper money	اعتباری زر	قریبی زر
5.	Central bank gives loan to commercial banks at the rate, that is:	Interest rate	Open market operation	درومی کی شرح	شرح بینک
6.	To control inflation bank rate is:	Reduced	Increased	کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے	ان میں سے کوئی نہیں
7.	The biggest source of Government income is:	Loans	Fees	خارجے کی سرمایہ کاری	ٹیکس
8.	Deficit financing belongs to:	Investor	Common man	حکومت	کشاور
9.	To remove deficit in balance of payments we should:	ادائیگیوں کے توازن میں خسارے کو دور کرنے	درآمدات میں بہتری کی کھانچے	برآمدات میں اضافہ کی کھانچے	برآمدات کو یکساں رکھنا
10.	The Government's import and export policy is known as:	Monetary policy	Fiscal policy	تجارتی پالیسی	صنعتی پالیسی
11.	The largest sector of Pakistan's economy is:	Agriculture	Trade	خدمات	مائی گیری
12.	The organization which collects basic information to measure national income of Pakistan is:	Central bank	National bank	ورلڈ بینک	دفاقی ادارہ شماریات
13.	Who did present the best measure of economic development?	Meier and Baldwin	Aurthur Lewis	Marshall	Keynes
14.	In Pakistan, planning commission was established in:	1950	1955	1958	1960
15.	Pakistan due to high population there is increase of:	Income	Unemployment	قدرتی وسائل	بہتر معیار زندگی
16.	If a clerk becomes Assistant Director, it will called:	عمودی حرکت پذیری	Horizontal mobility	جغرافیائی حرکت پذیری	پیشہ دارانہ حرکت پذیری
17.	State Bank of Pakistan was established in:	14 August 1947	1 st July 1948	1 st June 1948	1 st January 1948
18.	Income tax in Pakistan is:	Proportional tax	Indirect tax	Progressive tax	تہرجی ٹیکس
19.	Export Promotion Bureau was established in:	1960	1963	1951	1971
20.	Islamic Economic System prohibits from:	Production of wealth	Consumption of wealth	Circulation of wealth	Concentration of wealth

317-422-2A-550

CANCELLED